



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا راؤنڈ ہفتے سے شروع ہوگا

کراچی، 30 اکتوبر 2020ء:

قائد اعظم ٹرافی کے فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں چھ ٹیموں کے درمیان معیاری اور بہترین مقابلوں کے بعد اب ایونٹ کا دوسرا راؤنڈ ہفتے سے شروع ہوگا۔

ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں کھیلے گئے تین میچوں میں کل 4 بلے بازوں نے سنچریاں اور 4 باؤلرز نے میچ کی ایک اننگز میں 5 یا اس سے زیادہ وکٹیں حاصل کیں۔

ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں سدرن پنجاب اور بلوچستان کے درمیان کھیلا جانے والا چار روزہ فرسٹ کلاس میچ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شیڈول یہ میچ پی سی بی کے آفیشل یو ٹیوب چینل پر اسٹریم بھی کیا جائے گا۔

شان مسعود کی زیر قیادت میدان میں اترنے والی سدرن پنجاب کی ٹیم وہ واحد ٹیم ہے جس نے ایونٹ کے پہلے راؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ بیٹنگ اور باؤلنگ پوائنٹس اپنے نام کیے۔

ایونٹ کے پہلے راؤنڈ میں بننے والی کل چار سنچریوں میں سے 2 تو سدرن پنجاب کے بلے بازوں نے بنائیں۔ شان مسعود نے 134 اور حسین طلعت نے 253 رنز بنائے۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی سدرن پنجاب کی امیدوں کا محور لیگ اسپنر زاہد محمود ہوں گے۔ انہوں نے پہلے میچ میں 98 رنز کے عوض 10 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی تھی۔

دوسری طرف پہلے راؤنڈ میں خیبر پختونخوا کو 186 رنز سے شکست دینے والی بلوچستان کرکٹ ٹیم کی قیادت یاسر شاہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایونٹ کے ابتدائی راؤنڈ میں 8 وکٹیں حاصل کیں۔ بلوچستان کی ٹیم نے میچ میں تمام باؤلنگ پوائنٹس حاصل کیے۔

ادھر پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن سنٹرل پنجاب کو شکست سے دوچار کرنے والی سندھ کی ٹیم دوسرے راؤنڈ میں کے پی کے مدمقابل آئے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان چار

روزہ میچ یوبی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں کھیلا جائے گا۔

فواد عالم کی سنچری اور تابش خان کے 5 شکار نے سندھ کو سنٹرل پنجاب کے خلاف میچ میں فتح حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا تاہم اس دوران سعود شکیل، عمیر بن یوسف اور محمد اصغر نے بھی اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے تھے۔ سندھ کرکٹ ٹیم کی کپتانی سرفراز احمد کر رہے ہیں۔

ادھر کے پی کی قیادت اشفاق احمد کر رہے ہیں۔ اسکواڈ میں شامل عادل امین، کامران غلام اور ساجد خان نے گزشتہ میچ میں بہتر انفرادی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تاہم وہ اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کی فاتح کے پی کی ٹیم ایونٹ کے دوسرے راؤنڈ میں جیت کے لیے پرعزم ہے۔

گزشتہ سیزن کی دونوں فائنلسٹ ٹیمیں، سنٹرل پنجاب اور ناردرن کی ٹیم رواں سال پہلی مرتبہ ہفتے سے شروع ہونے والے راؤنڈ میں این بی پی اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں ٹکرائیں گی۔

اظہر علی کی زیرقیادت میدان میں اترنے والی سنٹرل پنجاب کی ٹیم کو گزشتہ میچ میں 6 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تاہم دوسرے راؤنڈ میں وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی مکمل اہلیت رکھتی ہے۔ گزشتہ میچ میں احمد شہزاد اور محمد سعد نے نصف سنچریاں بنائی تھیں جبکہ وقاص مقصود نے میچ میں پانچ وکٹیں حاصل کی تھیں۔

ناردرن کی قیادت نعمان علی کر رہے ہیں۔ ناردرن کو ایونٹ کے پہلے راؤنڈ میں ایک اننگز کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گزشتہ میچ میں ناردرن کی ٹیم، بیٹنگ اور باؤلنگ دونوں شعبوں میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی تاہم ماضی کی طرح وہ اس مرتبہ بھی فرسٹ کلاس کرکٹ میں شاندار کم بیک کرنے کے لیے دوسرے راؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔

ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21:

- 31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 first-class matches. For schedule, click [here](#)
- The event will be played under [Covid-19 protocols](#) at four venues in Karachi, namely National Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports Complex.
- Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab

- The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following the conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.
- The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect PKR5million
- PKR500,000 will be handed out to tournament's top-performers and the player of the final will get PKR50,000
- Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB's strategy and commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click [here](#) to read more

As part of the US\$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click [here](#), to read more about the three-year agreement

HELP PREVENT CORONAVIRUS



National Team Partners



Domestic Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
 Gaddafi Stadium,
 Ferozpur Road, Lahore
 Pakistan, PO Box 54000
 T: +92 42 3571 7231-4